

al-Taṣrīḥu

FĪ

Ṣalāti al-Tarāwīḥ

﴿Bīs rak‘at Namāze Tarāwīḥ kā ṣubūt﴾

Shayḫ al-Islām

Dōktar Muḥammad Ṭāhir al-Qādirī

Roman Urdū Transliterator

Dīwān Mōḥsin Shāh



مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
نَبِينَا الْأَمْرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ
أَبْرَ فِي قَوْلٍ لَّا مِنْهُ وَلَا نَعَمَ

www.TahirulQadriBooks.com

﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

FEHRIS

AL-RAQM	AL-MUHTAWAYAT	AL-SAFHAH
1	فَصْلٌ فِي فَضْلِ قِيَامِ رَمَضَانَ ﴿FAZILATE QIYAME RAMADAN KA BAYAN﴾	6
2	فَصْلٌ فِي عَدَدِ رَكَّاتِ التَّرَاوِيحِ ﴿NAMAZE TARAWEEH KEE TA'DADE RAK'AT KA BAYAN﴾	18
3	MASADIR AL-TAKHRIJ	46

www.TahirulQadriBooks.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنَ الْعَدِّ: خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَطِيقُوهَا.

﴿Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Logo'n Ko Do Raaten 20 Rak'at Namaze Taraweeh Padhaa'i, Jab Teesri Raat Log Phir Jam'a' Ho Ga'e To Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Un Kee Taraf (Hujra'e Mubarak Se Baahar) Tashrif Nahin Laa'e. Phir Subah Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mujhe Andesha Huwa Ki (Namaze Taraweeh) Tum Par Farz Kar Dee Ja'egi Lekin Tum Is Kee Taqat Na Rakhoge.﴾

(Ibn Hajar 'Asqalani Fi Talkhis-ul-Habir, 02/21)

فَضْلٌ فِي فَضْلِ قِيَامِ رَمَضَانَ

FAZILATE QIYAME RAMADAN KA BAYAN

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ne Ramadan Men Ba Haalate Iman Sawaab Kee Niyyat Se Qiyaam Kiya To Us Ke Saabiqqa Tamam Gunaah Mu’aaf Kar Diye Ga’e.”

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ

Al-Hadith Raqm 1: Bukhari Fi As-Sahih, 01/22, Raqm-37,
Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-759,
Nasa’i Fi As-Sunan, 03/201, Raqm-1602, 1603,
Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/408, Raqm-9277,
Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/336, Raqm-2203,
Darami Fi As-Sunan, 02/42, Raqm-1776.
Al-Hadith Raqm 2: Bukhari Fi As-Sahih, 02/709, Raqm-1910,
37, 38, 1801, 1905,

إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ إِحْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Shakhs Ne Haalate Imaan Men Aur Sawaab Kee Niyyat Se Ramadan Ke Roze Rakhe To Us Ke Saabiqa Gunaah Mu’aaf Kar Diye Jaate Hain Aur Jo Ramadan Men Iman Kee Haalat Aur Sawaab Kee Niyyat Se Qiyaam Karta Hai To Us Ke (Bhi) Saabiqa Gunaah Mu’aaf Kar Diye Jaate Hain Aur Jo Laylat-ul-Qadr Men Iman Kee Haalat Aur Sawaab Kee Niyyat Se Qiyaam Kare Us Ke Guzashta Gunaah Bakhsh Diye Jaate Hain.”

3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ يُرْعَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-740,
Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/171, Raqm-808,
Aboo Dawud As-Sunan, 02/49, Raqm-1371,
Nasa’i Fi As-Sunan, 04/156, Raqm-02, 22,
Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/526, Raqm-1641.

Al-Hadith Raqm 3: Bukhari Fi As-Sahih, 02/707, Raqm-1905,
Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-759,
Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/171, Raqm-808,
Wa-Qala Aboo Isa: Hadha Hadithun Hasanun Sahih,

إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namaze Tarawih Padhne Kee Raghbat Dilaya Karte The Lekin Hukman Nahin Farmate The Chunanche Farmate Ki Jis Ne Ramadan-ul-Mubarak Men Husoole Sawab Kee Niyyat Se Aur Halate Iman Ke Saath Qiyaam Kiya To Us Ke Saabiqa (Tamaam) Gunaah Bakhsh Diye Jaate Hain. Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Wisaal Mubarak Tak Namaze Tarawih Kee Yahi Surat Barqaraar Rahi Aur Khilafat E Aboo Bakr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Men Aur Phir

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/49, Raqm-1371,
 Nasa’i Fi As-Sunan, 04/154, Raqm-2192,
 Malik Fi Al-Muwatta’, 01/113, Raqm-249,
 Ahmad Bin Hanbal Al-Musmad, 02/281, Raqm-7774,
 Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/338, Raqm-2207,
 Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/353, Raqm-141,
 Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 04/258, Raqm-7719,
 Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/493, Raqm-4378,
 Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/120, Raqm-9299.

Khilafat E Umar Farooq RadiyAllahu Ta'ala 'Anhu Ke Shuroo' Tak Yahī Surat Barqaraar Rahi.”

4- عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَتَّقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرَى أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طَوْلِ الْعُمُرِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرَ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

“Hazrat Imam Maalik Rahmatullahi Ta'ala 'Alayh Se Riwayat Hai Ki Unhone Thiqa (Ya'ni Qabile E'temad) Ahle Ilm Ko Yeh Kahte Hu'e Suna Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Saabiqā Ummato'n Kee Umren Dikhaa'i Ga'i Ya Us Baare Men Jo Allah Ta'ala Ne Chaaha Dikhaaya To Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Apni Ummat Kee Kam Umro'n Ka Khayaal Karte Hu'e Socha Ki Kya Meri Ummat Is Qadar Aamaal Kar Sakegi Jis Qadar Doosari Ummato'n Ke Logo'n Ne Tawaalate Umr Ke Baa'is Kiye. To Allah Ta'ala Ne Aap SallAllahu Ta'ala

Al-Hadith Raqm 4: Malik Fi Al-Muwatta', 01/321, Raqm-698,
Bayhaqi Fi Shu'ab-ul-Iman, 03/323, Raqm-3667,
Mundhiri Fi At-Tarhib Wa At-Tarhib Mina Al-Hadith
Ash-Sharif, 02/65, Raqm-1508.

‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Shabe Qadar Ata Farma Dee Jo Hazaar Mahino’n Se Bhi Afzal Hai.”

5 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْ نَاعِنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هِيَ فِي رَمَضَانَ التَّمَسُّوَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَإِنَّهَا وَتُر فِي إِحْدَى وَعَشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ أَوْ تِسْعٍ وَعَشْرِينَ أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فَمَنْ قَامَهَا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ubaadah Bin Saamit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Unhone Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Hamen Shabe Qadr Ke Baare Men Bataa’e To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Yeh (Raat) Mahe Ramadan Ke Aakhiri Ashre Men Ikkiswi’n-21, Te’iswi’n-23, Pachchiswi’n-25, Sattaiswi’n-27, Untiswi’n-29 Ya Ramadan Kee Aakhiri Raat Hoti Hai. Jo Banda Is Men Imano Sawaab Ke Iraade Se Qiyaam Kare Us Ke

Al-Hadith Raqm 5: Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/318, 321, 324, Raqm-22765, 22793, 22815, Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/71, Raqm-1284, Mundhiri Fi At-Tarhib Wa At-Tarhib Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/65, Raqm-1507, Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 03/175, 176.

Agle Pichhle (Tamaam) Gunaah Bakhsh Diye Jaate Hain.”

6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِينَ. آمِينَ. آمِينَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ جِئْتَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ. آمِينَ. آمِينَ؟ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبُوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبْرَهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. قُلْ آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ.

رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ جِبَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

Al-Hadith Raqm 6: Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/192, Raqm-1888,
Ibn Hibban Fi As-Sahih, 03/188, Raqm-907,
Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/225, Raqm-646,
Bazzar Fi Al-Musnad, 04/240, Raqm-1405,
Bazzar Fi Al-Musnad, 09/247, Raqm-3790,
Aboo Ya'la Fi Al-Musnad, 10/328, Raqm-5922,
Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 04/304, Raqm-8287,
Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Awsat, 09/17, Raqm-8994,
Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Kabir, 02/243, Raqm-2022,
Mundhiri Fi At-Tarhib Wa At-Tarhib Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/57, Raqm-1481.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Mimbar Par Tashreef Farma Hu’e To Teen³ Baar Aameen, Aameen, Aameen Farmya. Arz Kiya Gaya: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Mimbar Par Jalwa Afroz Hu’e To Aap Ne Aameen, Aameen, Aameen Farmaya (Is Kee Kya Wajah Hai?). Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Mere Paas Haazir Hu’e Aur Kahne Lage: Jis Shakhs Ne Mahe Ramadan Paaya Aur Us Kee Maghfirat Na Ho Saki To Woh Aag Men Gaya, Use Allah Ta’ala Apni Rahmat Se Door Kar De. (Aye Habibe Khuda!) Aap Aameen Kahen. Us Par Main Ne Aameen Kaha Aur Jis Shakhs Ne Maa Baap Dono’n Ko Paaya Un Men Se Kisi Ek Ko Paaya Aur Un Ke Saath Neki Na Kee Aur Mar Gaya To Woh Aag Men Gaya. Allah Ta’ala Use Apni Rahmat Se Dur Kar De: (Aye Habibe Khuda!) Aap Aameen Kahen . To Main Ne Aameen Kaha Aur Woh Shakhs Jis Ke Paas Aap Ka Zikr Kiya Gaya Aur Us Ne Aap Par Durood Na Padha Aur Usi Haalat Men Mar Gaya To Woh Bhi Aag Men Gaya. Allah Ta’ala Use Apni Rahmat Se Dur Kar De (Aye Habibe Khuda!) Aap Aameen Kahen To Main Ne Aameen Kaha.”

7- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ.

رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ.

“Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Unhone Farmaya: Jab Mahe Ramadan Shuroo’ Ho Jaata To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apna Kamar Band Kas Lete Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apne Bistar Par Tashrif Nahin Laate The Yaha’n Tak Ki Ramadan Guzar Jaata.”

8- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشْفَقَ مِنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ.

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 7: Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/342, Raqm-2216,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/66, Raqm-24422,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/310, Raqqm-3624,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/143, Raqm-211.

Al-Hadith Raqm 8: Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/310, Raqm-

“Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Unhone Farmaya Ki Jab Mahe Ramadan Shuroo’ Hota To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Rang Mubarak Tabdeel Ho Jaata Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namazo’n Kee (Mazid) Kasarat Kar Dete Aur Allah Ta’ala Se Aajizi Wa Gidgida Kar Duaa Kar Te Aur Is Maah Men Nihaayat Mohtaata Rehte.”

9- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي رَمَضَانَ يُنَادِي مُنَادٍ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ: أَلَا سَائِلٌ يَسْأَلُ فَيُعْطَى، أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرُ لَهُ، أَلَا تَائِبٌ يَتُوبُ فَيُتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

“Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Bayan Kee Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be Shak Ramadan-ul-Mubarak Men Raat Ke Pehle, Tisre

3625,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/143, Raqm-212.

Al-Hadith Raqm 9: Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/311, Raqm-3628.

Pahar Ke Baad Ya Aakhiri Tisre Pahar Ke Baad Ek Nida Kar Ne Waala Nida Karta Hai: Hai Koi Sawaal Karne Waala Ki Woh Sawaal Kare To Use Ata Kiya Jaa'e? Kya Hai Koi Maghfirat Ka Talabgaar Ki Woh Maghfirat Talab Kare To Use Bakhsh Diya Jaa'e? Kya Hai Koi Tawba Karne Waala Ki Woh Tawba Kare To Allah Ta'ala Us Kee Tawbah Qubool Kare?"

10- عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا وَحَضَرَ رَمَضَانَ: أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ بَرَكَةٌ يَغْشَاكُمْ اللَّهُ فِيهِ فَيَنْزِلُ الرَّحْمَةَ، وَيَحْطُ الْخَطِيَا، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعَاءَ، يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، وَيَبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ فَأَزُوا اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْمُنْذَرِيُّ وَالْهَيْثَمِيُّ.

“Hazrat ‘Ubadah Bin Samit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Din Farmaya Jab Ki Ramadan-ul-

Al-Hadith Raqm 10: Mundhiri Fi At-Tarhib Wa At-Tarhib
Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/60, Raqm-1490,
Wa-Qala: Rawahu Al-Tabaraniyu Wa-Ruwatuhu
Thiqat,
Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 03/142,
Wa-Qala: Rawahu Al-Tabaraniyu Fi Al-Kabir.


Mubarak Shuroo' Ho Chuka Tha: Tumhare Paas Barkaton Waala Mahina Aa Gaya Hai Is Mahine Men Allah Ta'ala Tumhen Apni Rahmat Se Dhaanp Leta Hai. Rahmat Naazil Farmata Hai, Gunaaho'n Ko Mitaata Hai Aur Duaaen Qubool Farmata Hai. Is Mahine Men Allah Ta'ala Tumhare Dilo'n Par Nazar Farmata Hai Aur Tumhari Wajah Se Apne Firishto'n Ke Saamne Fakhr Farmaata Hai. Lehaaza Tum Apne Qalb Wa Baatin Se Allah Ta'ala Kee Bargah Men Neki Pesh Karo Kyun Ki Badbakht Hai Woh Shakhs Jo Is Maah Men Bhi Allah Ta'ala Kee Rahmat Se Mehroom Raha.”

11- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ذَاكِرُ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ مَغْفُورٌ لَهُ، وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ.

Al-Hadith Raqm 11: Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Awsat, 06/195, Raqm-6170,
 Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Awsat, 07/226, Raqm-7341,
 Bayhaqi Fi Shu'ab-ul-Iman, 03/311, Raqm-3627,
 Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/242, Raqm-3141,
 Mundhiri Fi At-Tarhib Wa At-Tarhib Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/64, Raqm-1501,
 Haythami Fi Majma'-uz-Zawa'id, 02/64.

“Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mahe Ramadan Men Allah Ta’ala Ka Zikr Kar Ne Waala Bakhsh Diya Jaata Hai Aur Is Maah Men Allah Ta’ala Se Maangne Waale Ko Naa Muraad Nahin Kiya Jaata.”



www.TahirulQadriBooks.com

فَصْلٌ فِي عَدَدِ رَكْعَاتِ التَّرَاوِيحِ

﴿NAMAZE TARAWIH AUR US KEE TA'DADE RAK'AT KA BAYAN﴾

12- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدَرْتُ أَيُّهُمَ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي

Al-Hadith Raqm 12: Bukhari Fi As-Sahih, 01/380, Raqm-1077,
Bukhari Fi As-Sahih, 02/708, Raqm-1908,
Muslim Fi As-Sahih, 01/524, Raqm-761,
Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/49, Raqm-1373,
Nasa'i Fi As-Sunan, 03/202, Raqm-1604,
Nasa'i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/410, Raqm-1297,
Malik Fi Al-Muwatta', 01/113, Raqm-248,
Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/177, Raqm-25485,
Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/353, Raqm-141,
Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/338, Raqm-2207,
Abd-ur-Razzaq Al-Musannaf, 03/43, Raqm-4723,
Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/492, Raqm-4377,
Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Sughara, 01/480, Raqm-486,
Ibn Hajar 'Asqalani Fi Talkhis-ul-Habir, 02/21.

مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبَحَارِيِّ.

وَرَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرِغِبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةِ أَمْرِ فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَصَلَّى بِهِمْ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ.

وَأَخْرَجَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي "التَّلْخِيسِ": أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنَ الْعَدَدِ: خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَطِيقُوهَا.

“Umm-ul-Mu'minin Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu Ta'ala 'Anha Se Marwi Hai Ki Ek Raat Rasool Allah SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Masjid Men (Nafil) Namaz Padhi To Logo'n Ne Bhi Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Namaz Padhi. Phir Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Agli Raat Namaz Padhi To Ziyaada Log Jam'a Ho Ga'e Phir Teesri³ Ya Chauthi⁴ Raat Bhi Aa Khade

Hu'e Lekin Rasool Allah SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Un Kee Taraf Tashreef Na Laa'e. Jab Subah Hu'i To Farmaya: Main Ne Dekha Jo Tum Ne Kiya Aur Mujhe Tumhare Paas (Namaz Padhaane Ke Liye) Aane Se Sirf Andeshe Ne Roka Ki Yeh Tum Par Farz Kar Dee Jaa'egi Aur Yeh Ramadan-ul-Mubarak Ka Waaqe'a Hai."

Imam Khuzayma Aur Imam Ibn Hibban Ne In Alfaz Ka Izaafa Kiya: Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Unhen Qiyame Ramadan (Tarawih) Kee Raghbat Dilaaya Karte The Lekin Hukman Nahin Farmate The Chunanche (Targheeb Ke Liye) Farmate Ki Jo Shakhs Ramadan-ul-Mubarak Men Iman Aur Sawab Kee Niyyat Ke Saath Qiyaam Karte Hai To Us Ke Pichhle Tmama Gunaah Bakhsh Diye Jaate Hain. Phir Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Wisaal Mubarak Tak Qiyame Ramadan Kee Yahi Soorat Barqaraar Rahi Aur Yahi Soorat Khilafate Aboo Bakr RadiyAllahu Ta'ala 'Anhu Aur Khilafate Umar RadiyAllahu Ta'ala 'Anhu Ke Awaa'il Daur Tak Jaari Rahi Yaha'n Tak Ki Hazrat 'Umar RadiyAllahu Ta'ala 'Anhu Ne Unhen Hazrat Ubay Bin Ka'b RadiyAllahu Ta'ala 'Anhu Kee Iqtida' Men Jam'a Kar Diya Aur Woh Unhen Namaze (Tarawaih) Padhaaya

Karte The, Lehaaza Yeh Woh Ibtida'i Zamaana Hai Jab Log Tarawih Ke Liye (BaaJama'at) Ikat'tha Hote The.”

Aur Imam Asqalani Ne “Al-Talkhis” Men Bayan Kiya Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Logo'n Ko Do² Raaten 20 Rak'at Namaz Padhaa'i Jab Teesri³ Raat Log Phir Jam'a Ho Ga'e To Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Un Kee Taraf (Huzara Mubarak Se Baahar) Tashreef Nahin Laa'e, Phir Subah Aap SallAllahu Ta'ala 'Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mujhe Andesha Huwa Ki (Namaze Tarawih) Tum Par Farz Kar Dee Jaa'egi, Lekin Tum Is Kee Taaqat Na Rakhoge.”

13- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَاسَ فِي رَمْصَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا هُوَ لَاءٍ؟ فَقِيلَ:

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 13: Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/50, Raqm-1377,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/339, Raqm-2208,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 06/282, Raqm-2541,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/495, Raqm-4386, 4388,

Ibn 'Abd-il-Barr Fi At-Tamhid, 08/111,

هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَ أَيْبُ بَنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَ هُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ خَزِيمَةَ وَ ابْنُ حَبَّانَ وَ الْبَيْهَقِيُّ.

وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: قَالَ: قَدْ أَحْسَنُوا أَوْ قَدْ أَصَابُوا أَوْ لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ

لَهُمْ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Unhone Farmaya: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam (Hujare Mubarak Se) Baahar Tashreef Laa’e To (Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Dekha Ki) Ramadan-ul-Mubarak Men Log Masjid Ke Goshe Men Namaz Padh Rahe The, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Daryaft Farmaya: Ye Koun Hain? Arz Kiya Gaya: Ye Woh Log Hai Jinhen Qur'an Paak Yaad Nahin Aur Hazrat Ubay Bin Ka'b Namaz Padhaate Hain Aur Ye Log Un Kee Iqtida' Men Namaz Padhte Hain To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Inhone Durust Kiya Aur Kitna Hee Achchha Amal Hai Jo Inhone Kiya.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud, Ibn Khuzaymah Ibn Hibban Wa Bayhaqi Ne Riwayat Kiya Hai

Aur Bayhaqi Kee Ek Riwayat Men Hai Farmaya: Inhone Kitna Ahsan Iqdaam Ya Kitna Achchha Amal Kiya Aur Un Ke is Amal Ko Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Naapasand Nahin Farmaya.”

14. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يُرَغَّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

Al-Hadith Raqm 14: Bukhari Fi As-Sahih, 02/707, Raqm-1905,
 Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-759,
 Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/171, Raqm-808,
 Wa-Qala Aboo Isa: Hadha Hadithun Hasanun Sahih,
 Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/49, Raqm-1371,
 Nasa’i Fi As-Sunan, 04/154, Raqm-2192,
 Malik Fi Al-Muwatta’, 01/113, Raqm-249,
 Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/281, Raqm-7774,
 Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/338, Raqm-2207,
 Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/353, Raqm-141,
 Abd-ur-Razzaq Al-Musannaf, 04/258, Raqm-7719,
 Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/493, Raqm-4378,
 Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/120, Raqm-9299.

وَسَلَّمَ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا الْفِطْرُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namaze Tarawih Padhne Kee Raghbat Dilaaya Karte The Lekin Hukman Nahin Farmete The Chunanche Farmete Ki Jis Ne Ramadan-ul-Mubarak Men Husoole Sawab Kee Niyyat Se Aur Halate Iman Ke Saath Qiyam Kiya To Us Ke Pichhle (Tamam) Gunaah Bakhsh Diye Jaate Hain. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Wisaal Mubarak Tak Namaze Tarawih Kee Yahī Soorat Barqaraar Rahi Aur Khilafate Aboo Bakr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Men Aur Phir Khilafate Umar Faruk RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Shuru Tak Yahī Soorat Barqaraar Rahi.”

15- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ

Al-Hadith Raqm 15: Bukhari Fi As-Sahih, 02/707, Raqm-1906,
Malik Fi Al-Muwatta’, 01/114, Raqm-650,
Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/155, Raqm-155,
Abd-ur-Razzaq Al-Musannaf, 04/258, Raqm-7723,
Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 12, 493, Raqm-4378,

يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَمْرُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِبِي وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةَ أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِبِهِمْ، قَالَ عَمْرُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مَالِكٌ.

“Hazrat ‘Abd-ir-Rahman Bin ‘Abd-il-Qari Riwayat Karte Hain Ki Main Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Saath Ramadan Kee Ek Raat Masjid Kee Taraf Nikla To Log Alag-Alag The Koi Tanha Namaz Padh Raha Tha Aur Kisi Kee Iqtida' Men Ek Giroh Namaz Padh Raha Tha. Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya: Mere Khayaal Men Inhen Ek Qaari Ke Pichhe Jam’a Kar Doo'n To Achchha Hoga Phir Unhone Hazrat Ubay Bin Ka'b RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Pichhe Sab Ko Jam’a Kar Diya, Phir Main Ek Aur Raat Un Ke Saath Nikla Aur Log Ek Imam Ke Pichhe Namaz Padh Rahe The Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne (Unhen Dekh Kar) Farmaya: Yeh Kitni Achchhi Bid'at Hai, Aur Jo Log Is Namaz (Tarawih) Se So Rahe Hain Woh Namaz Ada Karne Waalo'n Se

Ziyaada Behtar Hain Aur Is Se Un Kee Muraad Woh Log The (Jo Raat Ko Jaldi So Kar) Raat Ke Pichhle Pahar Men Namaz Ada Karte The Aur Tarawih Ada Karne Waale Log Raat Ke Pehle Pahar Men Namaz Ada Karte The.”

16- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ، وَقَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat ‘Abd-ir-Rahman Bin Awf RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ramadan-ul-Mubarak Ka Zikr Farmaya To Sab Mahino’n Par Use Fazilat Dee. Is Ke Baad Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jo Shakhs Iman Aur

Al-Hadith Raqm 16: Nasa’i Fi As-Sunan, 04/158, Raqm-2208, 2210,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/421, Raqm-1328.

Husoolē Sawab Kē Niyyat Kē Saath Ramadan Kē Raato’n Men Qiyam Karta Hai To Woh Gunahon Se Yoo'n Paak Saaf Ho Jaata Hai Jayse Woh Us Din Tha, Jab Use Us Kē Maa Ne Janm Diya Tha.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

“Aur Ek Riwayat Men Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be Shak Allah Ta'ala Ne Ramadan Kē Roze Farz Kiye Hain Aur Main Ne Tumhare Liye Is Kē Qiyam (Namaze Tarawih) Ko Sunnat Qaraar Diya Hai Lehaaza Jo Shakhs Iman Aur Husoolē Sawab Kē Niyyat Kē Saath Mahe Ramadan Kē Dino’n Men Roze Rakhta Hai Aur Raato’n Men Qiyam Karta Hai Woh Gunaaho’n Se Yoo'n Paak Saaf Ho Jaata Hai Jayse Woh Us Din Tha Jab Use Us Kē Maa Ne Janm Diya Tha.”

17- عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ، بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 17: Malik Fi Al-Muwatta’, 01/115, Raqm-252,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/496, Raqm-4394,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/177, Raqm-3270,

Firyabi Fi As-Siyam, 01/132, Raqm-179,

رَوَاهُ مَالِكٌ وَ الْفَرِيَابِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْفَرِيَابِيُّ: إِسْنَادُهُ وَ رِجَالُهُ مُؤْتَقُونَ وَقَالَ ابْنُ قَدَامَةَ فِي الْمُعْنِيِّ: وَ هَذَا كَالْإِجْمَاعِ.

“Hazrat Yazeed Bin Rumaan Ne Bayan Kiya Ki Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Daur Men Log (Ba-Shumool Witr) 23 Rak'aat Padhte The.”

18. عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدْرَكَتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَ كَانَ الْقَارِئِيُّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً، رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ حَقَفَ.

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari,04/253,

Dirayah Takhrij Ahadith Al-Hidayah, 01/203, Raqm-257,

Ibn ‘Abd-il-Barr Fi At-Tamhid, 08/115,

Zarqani Fi Sharh-ul-Zarqani ‘Ala Muwatta’ Imam Malik, 01/342,

Ibn Qudamah Fi Al-Mughni, 01/456,

Shawkani Fi Nayl-ul-Awtar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar, 03/63,

Zayla’iy Fi Nasb-ur-Rayah Takhrij Ahadith Al-Hidayah, 02/154,

Ibn Rushd Fi Bidayat-il-Mujtahid Wa Nihayat-il-Muqtasid, 01/152.

Al-Hadith Raqm 18: Malik Fi Al-Muwatta’, 01/115, Raqm-753,

“Hazrat Shaah Wali Allah Dahelwi Ne (Is Hadith Kee Sharh Men) Bayan Kiya Ki Bees Rak'at Tarawih Aur Teen³ Witr Shawaafe Aur Ahnaaf Ka Mazhab Hai. Isee Tarah Mahalli Ne Imam Bayhaqi Se Bayan Kiya.”

19- عَنْ عَزْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الرَّجَالَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

“Hazrat Urwah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Logo’n Ko Mahe Ramadan Men Tarawih Ke Liye Ikat'tha Kiya. Mardon Ko Hazrat Ubay Bin Ka'b RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Aur

Al-Hadith Raqm 19: Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/493, Raqm-4380,
 Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, 04/252, 253, Raqm-1905,
 Zarqani Fi Sharh-ul-Zarqani ‘Ala Muwatta’ Imam Malik, 01/338, 341,
 Suyooti Fi Tanwir-ul-Hawalik Sharh’Ala Muawatta’ Malik, 01/105,
 Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Al-Dirayah Fi Takhrij Ahadith-ul-Hidayah, 01/203,
 Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Talkhis-ul-Habir, 02/24, Raqm-549,
 Ibn Qudamah Fi Al-Mughni, 01/455.

Aurto’n Ko Sulayman Bin Hasma RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Tarawih Padhaate.”

20- وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً.

“Hazrat Aboo ‘Isa Tirmidhi RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Apni Sunan Men Farmaya: Aksar Ahle Ilm Ka Mazhab 20 Rak'aat Tarawih Hai Jo Ki Hazrat ‘Ali, Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Aur Huzoor Sarware Kaynat SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Deegar Sahaba Se Marwi Hai Yahi (Kibaar Tabe’in) Sufyan Sawri, ‘Abd Allah Bin Mubarak Aur Imam Shafi’iy RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhum Ka Qaul Hai Aur Imam Shafi’iy Ne Farmaya: Main Ne Apne Shahr Makka Men (Ahle Ilm Ko) Bees-20 Rak'at Tarawih Padhte Paaya.”

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 20: Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/169, Raqm-806.

21 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُتْرِ.

Al-Hadith Raqm 21: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/164, Raqm-7692,
 Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Awsat, 01/243, Raqm-798,
 Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Awsat, 05/324, Raqm-5440,
 Tabarani Fi Al-Mu'jam-ul-Kabir, 11/393, Raqm-12102,
 Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/496, Raqm-4391,
 Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/218, Raqm-653,
 Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 06/113,
 Haythami Fi Majma'-uz-Zawa'id, 03/172,
 Ibn 'Abd-il-Barr Fi At-Tamhid, 08/115,
 Ibn Hajar 'Asqalani Fi Fat'h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, 04/254, Raqm-1908,
 Ibn Hajar 'Asqalani Fi Dirayah, 01/203, Raqm-257,
 Suyooti Fi Tanwir-ul-Hawalik Sharh'Ala Muawatta' Malik, 01/108, Raqm-263,
 Dhahabi Fi Mizan-ul-I'tidal Fi Naqd-ir-Rijal, 01/170,
 San'ani Fi Subul Al-Salam, 02/10,
 Mizzi Fi Tahdhib-ul-Kamal Fi Asma'-ir-Rijal, 02/149,
 Khatib Al-Baghdadi Fi Muwaddihu Awham Al-Jam' Wa At-Tafriq, 01/387,
 Zayla'iy Fi Nasb-ur-Rayah Takhrij Ahadith Al-Hidayah, 02/153,
 Zarqani Fi Sharh-ul-Zarqani 'Ala Muwatta' Imam Malik, 01/342, 351,
 Azim Abadi Fi 'Awn-ul-Ma'boodi Sharh Sunan Abi Dawud, 04/153,

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَطْرَانِيُّ وَالبَلْفَظِيُّ لَهُ وَابْنُ حَمِيدٍ.

“Hazrat Ibn Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Farmaya Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ramadan-ul-Mubarak Men Witr Ke Ilaawah Bees Rak'aat Tarawih Padha Karte The.”

22 عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

“Hazrat Saa'ib Bin Yazeed Ne Bayan Kiya Ki Hum Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Zamaane Men Fajr Ke Qareeb Tarawih Se Faarigh Hote The Aur Hum (Ba-Shumool-Witr) Te'is Rak'aat Padhte The.”

23 عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقْرَأُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْشَرِينَ رَكْعَةً، قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَأُونَ بِالْمِئِينَ وَكَانُوا يَتَوَكَّؤْنَ

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jami' At-Tirmidhi, 03/445.

Al-Hadith Raqm 22: Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 04/261, Raqm-7733,

Ibn Hazm Fi Al-Ihkamu Fi Usool-il-Ahkam, 02/230.

Al-Hadith Raqm 23: Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/496, Raqm-4393,

عَلَى عَصِيهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ
الْفَرَيَابِيُّ وَابْنُ الْجَعْدِ.

إِسْنَادُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْفَرَيَابِيُّ.

“Hazrat Saa'ib Bin Yazeed Se Marwi Hai Unhone Bayan Kiya Ki Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Ahad Men Sahaba’e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Mahe Ramadan Men Bees Rak'aat Tarawih Padhte The Aur Un Men Sau Aayat Waali Sooraten Padhte The Aur Hazrat ‘Uthman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Ahad Men Shiddate Qiyam Kee Wajah Se Woh Apni Laathiyo’n Se Tek Lagaate The.”

24 عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ، قَالَ: كَانَ يُؤْمِنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيَصَلِّي
خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عَشْرِينَ رَكْعَةً.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكُنَى.

Ibn Hasan Firyabi Fi As-Siyam, 01/131, Raqm-176,
Wa-Qala: Isnaduhu Wa-Rijaluhu Thiqaat,
Ibn Ja'd Al-Musnad, 01/413, Raqm-2825,
Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jami’ At-
Tirmidhi, 03/447.

Al-Hadith Raqm 24: Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/446,
Raqm-4395,
Bukhari Al-Kuni, 01/28, Raqm-234.

“Hazrat Khaseeb Ne Bayan Kiya Ki Hamen Hazrat Suwayd Bin Ghafala Mahe Ramadan Men Namaze Tarawih Paanch-05 Tarwiho'n (Ya'ni Bees Rak'at Men) Padhaate The.”

25 عَنْ شَيْبَةَ بْنِ شَكَلٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُؤْمِنُهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُتْرَبْتُ لَاتٍ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: وَفِي ذَلِكَ قَوْلُهُ.

“Hazrat Shutayr Bin Shakal Se Riwayat Hai Woh Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke As’haab Men Se The Ki Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ramadan Men Bees Rak'at Tarawih Aur Teen³ Rak'at Witr Padhaate The.”

26 عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا الْقَرَاءَةَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يَصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ. وَرَوَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ.

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 25: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqm-7680,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/496, Raqm-4395.

Al-Hadith Raqm 26: Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/496, Raqm-4396,

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

“Hazrat ‘Abd-ir-Rahman Sulami Se Marwi Hai Ki Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Ramadan-ul-Mubarak Men Qaariyo’n Ko Bulaaya Aur Un Men Se Ek Shakhs Ko Bees Rak’at Tarawih Padhaane Ka Hukm Diya Aur Khud Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Unhen Witr Padhaate The.”

Yeh Hadith Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Deegar Sanad Se Bhi Marwi Hai.

27 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ
بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عَشْرِينَ رَكْعَةً.

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jami’ At-Tirmidhi, 03/444.

Al-Hadith Raqm 27: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqm-7681,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra., 02/497, Raqm- 4397,

Ibn ‘Abd-il-Barr Fi At-Tamhid, 08/115,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jami’ At-Tirmidhi, 03/445,

San’ani Fi Subul Al-Salam, 02/10,

Ibn Qudamah Fi Al-Mughni, 01/456,

Wa-Qala: Hadha Kal-Ijma’.

Musalmano'n Ko Bees Rak'at Tarawih Padhaa'e Aur Yeh Rak'at Witr Ke Ilaawah Thi.”

30 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

“Hazrat Yahya Bin Sa'iyd Bayan Karte Hain Ki Hazrat 'Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta'ala 'Anhu Ne Ek Shakhs Ko Hukm Diya Ki Woh Unhen (Musalmano'n Ko) Bees Rak'at Tarawih Padhaa'e.”

31 عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ يُصَلِّي بِنَافِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

“Hazrat Nafi' Bin 'Umar Ne Bayan Kiya Hazrat Ibn Abi Mulayka Hamen Ramadan-ul-Mubarak Men Bees Rak'at Tarawih Padhaaya Karte The.”

32 عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: كَانَ أَبِي نُنْ كَغِبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَيُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ.

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 30: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqm-7682,
Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jami' At-Tirmidhi, 03/445.

Al-Hadith Raqm 31: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqm-7683.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

“Hazrat ‘Abd-il-Azeez Bin Rafi Ne Bayan Kiya Ki Hazrat Abi Bin Ka'b RadiyAllahu Ta'ala ‘Anhu Madinah Munawwarah Men Logo'n Ko Ramadan-ul-Mubarak Men Bees Rak'at Tarawih Aur Teen³ Witr Padhaate The.”

33- عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْمُ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Haaris Se Marwi Hai Ki Woh Logo'n Ko Ramadan-ul-Mubarak Kee Raato'n Men (Namaze Tarawih) Men Bees Rak'aten Aur Teen³ Witr Padhaaya Karte The Aur Rukoo' Se Pehle Du'a'e Qunoot Padhte The.”

34- عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خُمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 32: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqm-7684,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jami' At-Tirmidhi, 03/445.

Al-Hadith Raqm 33: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqm-7685.

Al-Hadith Raqm 34: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163,

“Hazrat Aboo Al-Bukhtari Se Riwayat Hai Ki Woh Ramadan-ul-Mubarak Men Paanch Tarwih (Ya'ni Bees Rak'at) Aur Teen³ Witr Padha Karte The.”

35 عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوَيْتِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

“Hazrat ‘Ata’ Farmate Hain Ki Main Ne Logo’n Ko Dekha Ki Woh Ba-Shumool Witr 23 Rak'at Tarawih Padhte The.”

36 عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَيْدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَزْوِيحَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

“Hazrat Sa’iyd Bin Ubayd Se Marwi Hai Ki Hazrat ‘Ali Bin Rabi’ Unhen Ramadan-ul-Mubarak Men Paanch-05 Tarwih (Ya'ni Bees Rak'at) Namaze Tarawih Aur Teen³ Witr Padhaate The.”

Raqm-7686.

Al-Hadith Raqam 35: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqam-7688.

Al-Hadith Raqam 36: Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/163, Raqam-7690.

37. عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً.

رَوَاهُ الدَّهَيْبِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ وَابْنُ قُدَامَةَ.

“Hazrat Hasan (Basari) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Logo’n Ko Hazrat Ubay Bin Ka'b RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee Iqtida' Men Qiyame Ramadan Ke Liye Ikat'tha Kiya To Woh Unhen Bees Rak'at Tarawih Padhaate The.”

38. عَنِ الرَّغْفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَبِمَكَّةَ بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ.

Al-Hadith Raqm 37: Dhahabi Fi Siyar A'lam An-Nubala', 01/400,

Ibn Hajar 'Asqalani Fi Talkhis-ul-Habir, 02/21, Raqm-540,

Ibn Qudamah Fi Al-Mughni, 01/456,

Malik Fi Al-Mudawwanat-ul-Kubra, 01/222,

Suyooti Fi Tanwir-ul-Hawalik Sharh'Ala Muawatta' Malik, 01/104,

Zarqani Fi Sharh-ul-Zarqani 'Ala Muwatta' Imam Malik, 01/338,

Ibn Taymiyyah Majmu' Fatawa, 01/401.

Al-Hadith Raqm 38: Ibn Hajar 'Asqalani Fi Fat'h-ul-Bari Sharh

رَوَاهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالشُّوْكَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ.

“Hazrat Za’faraani Umam Shafi’iy RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Unhone Farmaya: Main Ne Logo’n Ko Madinah Munawwarah Men Untaalis Aur Makkah Mukarrama Men Te’is Rak’at (Bees Tarawih Aur Teen³ Witr) Padhte Dekha.”

39۔ وقال ابن رشد القرطبي: فَاخْتَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدُ وَ دَاوُدُ الْقِيَامَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُتْرِ... أَنَّ مَالِكَاً رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُوْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

“Ibn Rushd Qurtubi Ne Farmaya Ki Imam Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Apne Do² Qaul Men Se Ek Aur Imam Aboo Hanifa, Imam Shafi’iy, Imam Ahmad Aur Imam Dawud Zaahri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhum Ajma’iyn Ne Bees Tarawih Ka Qiyam Pasand Kiya Hai Aur Teen³ Witr Is Ke Ilaawah Hain..... Isee Tarah Imam Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Yazeed Bin Rumaan Se Riwayat Bayan Kee

Sahih Al-Bukhari,04/253,

Shawkani Fi Nayl-ul-Awtar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar, 03/64.

Al-Hadith Raqm 39: Ibn Rushd Fi Bidayat-il-Mujtahid, 01/152.

Farmaya Ki Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Zamaane Men Log Te'is Rak'at Taraweeh Ka Qiyam Kiya Karte The.”

40- وقال الشيخ ابن تيمية في ”الفتاوى“: ثَبَّتَ أَنَّ أَبِي بَنِ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَرَأَى كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكَرْهُ مُنْكَرٌ.

“Shaykh Ibn Taymiyyah Ne ‘Apne Fatawa’ (Majmoo’a Fatawa) Men Kaha Ki Saabit Huwa Ki Hazrat Ubay Bin Ka'b RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ramadan-ul-Mubarak Men Logo’n Ko Bees Rak'at Tarawih Aur Teen³ Witr Padhaate The To Aksar Ahle Ilm Ne Ise Sunnat Maana Hai. Is Liye Ki Woh Muhaajireen Aur Ansaar (Tamaam) Sahaba’e Kiram (Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn) Ke Darmiyan (Un Kee Maujoodagi Men) Qiyam Karte (Bees Rak'at Padhaate) Aur Un Sahaba Men Se Kabhi Bhi Kisi Ne Unhen Nahin Roka.”

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 40: Ibn Taymiyyah Fi Majmoo’ Fatawa, 01/191,
Isma’il Bin Muhammad Al-Ansari Fi Tas’hihi Hadithi Salati Al-Tarawiha ‘Ishrina Rak’ah, 01/35.

41 وَ فِي مَجْمُوعَةِ الْفَتَاوَى التَّجْدِيَّةِ: أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ذَكَرَ فِي جَوَابِهِ عَنْ عَدَدِ التَّرَاوِيحِ أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَشْرِينَ رُكْعَةً.

“Majmoo’a Fatawa Najdiya Men Hai Ki Shaykh ‘Abd Allah Bin Muhammad Bin ‘Abd-il-Wahhab Ne Tarawih Kee Kul Rak’ato’n Se Mut’alliq Sawaal Ke Jawaab Men Bayan Kiya Ki Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Logo’n Ko Hazrat Ubay Bin Ka’b RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee Iqtida’ Men Namaze Tarawih Ke Liye Jam’a Kiya To Woh Unhen Bees Rak’at Padhaate The.”

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Hadith Raqm 41: Isma’il Bin Muhammad Al-Ansari Fi Tas’hihi Hadithi Salati Al-Tarawiha ‘Ishrina Rak’ah, 01/35.

www.TahirulQadriBooks.com

MASADIR AL-TAKHRIJ

1. القرآن الحكيم۔
2. ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام حرانی (661-728ھ / 1263-1328ء)۔
مجموع فتاویٰ۔ مکتبہ ابن تیمیہ۔
3. ابن جعد، ابوالحسن علی بن جعد بن عبید ہاشمی (133-230ھ / 750-845ء)۔ المسند۔
بیروت، لبنان: مؤسسہ نادر، 1410ھ / 1990ء۔
4. ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (270-354ھ / 884-965ء)۔
الصحيح۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الرسالہ، 1414ھ / 1993ء۔
5. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ /
1372-1449ء)۔ تلخیص الحبیبر فی احادیث الرافعی الكبير۔ مدینہ منورہ، سعودی
عرب، 1384ھ / 1964ء۔
6. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ /
1372-1449ء)۔ الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ۔ بیروت، لبنان: دار المعرفۃ۔
7. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ /
1372-1449ء)۔ فتح الباری۔ لاہور، پاکستان: دار نشر الکتب الاسلامیہ، 1401ھ /
1981ء۔
www.TahirulQadriBooks.com
8. ابن حزم، علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی، (384-456ھ / 994-1064ء)۔
الاحکام فی اصول الاحکام۔ فیصل آباد، پاکستان: ضیاء السنہ ادارہ الترجمہ والتعریف،
1404ھ۔

9. ابن خزيمه، ابو بكر محمد بن اسحاق (223-311 هـ / 838-924ء)۔ الصحيح۔ بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، 1390 هـ / 1970ء۔
10. ابن رشد، ابو وليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي (م 595 هـ)۔ بداية المجتهد۔ بيروت، لبنان: دار الفكر۔
11. ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (368-463 هـ / 979-1071ء)۔ التمهيد۔ مغرب (مراكش): وزارت عموم الاوقاف والشؤون الاسلاميه، 1387 هـ۔
12. ابن قدامه، ابو محمد عبد الله بن احمد المقدسي (م 620 هـ)۔ المغني في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني۔ بيروت، لبنان: دار الفكر، 1405 هـ۔
13. ابن ماجه، ابو عبد الله محمد بن يزيد قزويني (209-273 هـ / 824-887ء)۔ السنن۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1419 هـ / 1998ء۔
14. ابن هشام، ابو محمد عبد الملك حميري (م 213 هـ / 828ء)۔ السيرة النبوية۔ بيروت، لبنان: دار الحيل، 1411 هـ۔
15. ابو داود، سليمان بن اشعث سجستاني (202-275 هـ / 817-889ء)۔ السنن۔ بيروت، لبنان: دار الفكر، 1414 هـ / 1994ء۔
16. ابو علا مبارك پوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (1283-1353 هـ)۔ تحفة الاحوذى۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية۔
17. ابو يعلى، احمد بن علي بن مثنى بن يحيى بن عيسى بن بلال موصلى تميمي (210-307 هـ / 825-919ء)۔ المسند۔ دمشق، شام: دار المأمون للتراث، 1404 هـ / 1984ء۔
18. احمد بن حنبل، ابو عبد الله بن محمد (164-241 هـ / 780-855ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، 1398 هـ / 1978ء۔

19. اسماعيل بن محمد الانصاري، تصحيح حديث صلاة التراويح وعشرين ركعة- رياض، سعودي عرب: مكتبة الامام الشافعي، 1408هـ / 1988ء-
20. بخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256هـ / 810-870ء)-
الادب المفرد- بيروت، لبنان: دار البشائر الاسلامية، 1409هـ / 1989ء-
21. بخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256هـ / 810-870ء)-
الجامع الصحيح- بيروت، لبنان + دمشق، شام: دار القلم، 1401هـ / 1981ء-
22. بخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256هـ / 810-870ء)-
خلق افعال العباد- رياض، سعودي عرب: دار المعارف السعودية، 1398هـ / 1978ء-
23. بخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256هـ / 810-870ء)-
الكنى- بيروت، لبنان: دار الفكر-
24. بزار، ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الحاق بصري (210-292هـ / 825-905ء)- المسند
بيروت، لبنان: 1409هـ-
25. البيهقي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (384-458هـ / 994-
1066ء)- السنن الصغرى- مدينة منوره، سعودي عرب: مكتبة الدار، 1410هـ /
1989ء-
26. البيهقي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (384-458هـ / 994-
1066ء)- السنن الكبرى- مكة المكرمة، سعودي عرب: مكتبة دار الباز، 1414هـ /
1994ء-
27. البيهقي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (384-458هـ / 994-
1066ء)- شعب الايمان- بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1410هـ / 1990ء-

28. **ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سوره بن موسیٰ بن ضحاک سلمی** (210-279ھ / 825-892ء)۔ **الجامع الصحیح**۔ بیروت، لبنان: دار الغرب الاسلامی، 1998ء۔
29. **خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بن ثابت** (392-463ھ / 1002-1071ء)۔ **تاریخ بغداد**۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔
30. **خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بن ثابت** (392-463ھ / 1002-1071ء)۔ **موضح اوہام الجمع والتفریق**۔ بیروت، لبنان: دار المعرفۃ 1407ء۔
31. **دارمی، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن** (181-255ھ / 797-869ء)۔ **السنن**۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العربی، 1407ھ۔
32. **دیلمی، ابو شجاع شیرویہ بن شہر دار بن شیرویہ بن فناخسرو ہزدانی** (445-509ھ / 1053-1115ء)۔ **الفردوس بمانور الخطاب**۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، 1986ء۔
33. **ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد الذہبی** (673-748ھ)۔ **میزان الاعتدال فی نقد الرجال**۔ بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیہ، 1995ء۔
34. **ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد الذہبی** (673-748ھ)۔ **سیر اعلام النبلاء**۔ بیروت، لبنان، مؤسسۃ الرسالہ، 1413ھ۔
35. **زر قانی، ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف بن احمد بن علوان مصری ازہری مالکی** (1055-1122ھ / 1645-1710ء)۔ **شرح الموطا**۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، 1411ھ۔
36. **زیلعی، ابو محمد عبد اللہ بن یوسف حنفی** (م762ھ)۔ **نصب الراية لاحادیث الهدایة**۔ مصر، دار الحدیث، 1357ھ۔

37. سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)۔ تنوير الحوالک شرح موطا مالک، مصر: مکتبہ التجاریہ الکبری، 1389ھ / 1969ء۔
38. سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)۔ الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمیہ۔
39. شاه ولي اللہ، الدهلوی (1174ھ / 1762ء)۔ المسوی من احاديث الموطا۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب: مکتبہ الحجاز، 1351ھ۔
40. شوکانی، محمد بن علی بن محمد (1173-1250ھ / 1760-1834ء)۔ نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار۔ بيروت، لبنان: دار الفکر، 1402ھ / 1982ء۔
41. صنعانی، محمد بن اسماعیل الامیر (773-852ھ)۔ سبل السلام شرح بلوغ المرام۔ بيروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی، 1379ھ۔
42. طاہر القادری، ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ عرفان القرآن۔ لاہور، پاکستان: منہاج القرآن پبلی کیشنز۔
43. طبرانی، سلیمان بن احمد (260-360ھ / 873-971ء)۔ المعجم الاوسط۔ ریاض، سعودی عرب: مکتبہ المعارف، 1405ھ / 1985ء۔
44. طبرانی، سلیمان بن احمد (260-360ھ / 873-971ء)۔ المعجم الكبير۔ قاہرہ، مصر: مکتبہ ابن تیمیہ۔
45. عبد بن حمید، ابو محمد بن نصر الکسبی (م 249ھ / 863ء)۔ المسند۔ قاہرہ، مصر: مکتبہ السنہ، 1408ھ / 1988ء۔

46. عبد الرزاق، ابو بكر بن همام بن نافع صنعاني (126-211 هـ / 744-826ء)۔ المصنف۔ بيروت، لبنان: المكتبة الاسلامي، 1403 هـ۔
47. عظيم آبادي، ابو الطيب محمد شمس الحق۔ عمون المعبود شرح سنن ابي داود۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1415 هـ۔
48. فريابي، ابو بكر جعفر بن محمد بن حسن (207-301 هـ)۔ الصيام۔ بمبئي، بھارت: دار الكتب السلفية، 1412 هـ۔
49. اللالكائي، ابو قاسم هبة الله بن حسن بن منصور (418 هـ)۔ كرامات اولياء الله عز وجل۔ رياض، سعودي عرب، دار طيبة، 1412 هـ۔
50. مالك، ابن انس بن مالك رضی اللہ عنہ بن ابي عامر بن عمرو بن حارث اصبحي (93-179 هـ / 712-795ء)۔ المدونة الكبرى۔ بيروت، لبنان: دار صادر۔
51. مالك، ابن انس بن مالك رضی اللہ عنہ بن ابي عامر بن عمرو بن حارث اصبحي (93-179 هـ / 712-795ء)۔ الموطا۔ بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، 1406 هـ / 1985ء۔
52. مزى، ابو الحجاج يوسف بن زكى عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي (654-742 هـ / 1256-1341ء)۔ تهذيب الكمال۔ بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، 1400 هـ / 1980ء۔
53. مسلم، ابن الحجاج قشيري (206-261 هـ / 821-875ء)۔ الصحيح۔ بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي۔
54. منذري، ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامه بن سعد (581-656 هـ / 1185-1258ء)۔ الترغيب والترهيب۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1417 هـ۔
55. نسائي، احمد بن شعيب (215-303 هـ / 830-915ء)۔ السنن۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1416 هـ / 1995ء۔

56. نسائی، احمد بن شعیب (215-303ھ / 830-915ء)۔ السنن الكبرى۔ بیروت، لبنان:
دار الکتب العلمیہ، 1411ھ / 1991ء۔

57. بیہقی، نور الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (735-807ھ / 1335-1405ء)۔
مجمع الزوائد۔ قاہرہ، مصر: دار الریان للتراث + بیروت، لبنان: دار الکتب العربی،
1407ھ / 1987ء۔

58. بیہقی، نور الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (735-807ھ / 1335-1405ء)۔
موارد الظمان الی زوائد ابن حبان۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔



www.TahirulQadriBooks.com